




Cene Štupar



DOBRODOŠLI V LJUBLJANI!

WELCOME TO LJUBLJANA!

LÜBYANA'YA HOŞ GELDİNİZ!

MİRË SE VINI NË LJUBLJANE!

BIENVENUE A LJUBLJANA!

እንቁስ ፊበ LJUBLJANA ብደኋላ

መስክርም!

بـه اسلوونى خوش آمدید

بـه ليوبليانا خوش آمدید

أهلاً بكم في سلوفينيا

أهلاً بكم في ليوبليانا.

Interkulturni center

Mestni program izobraževanja odraslih

2022



Cene Štupar



DOBRODOŠLI V LJUBLJANI!

WELCOME TO LJUBLJANA!



**Ljubljana je glavno
mesto Republike
Slovenije.**

**Ljubljana
is the capital of the
Republic of Slovenia.**

ŽUPAN:
ZORAN JANKOVIĆ

MAYOR:
ZORAN JANKOVIĆ



PREBIVALCI: približno 300.000
SIMBOL: zmaj
GRB: grad in zmaj

POPULATION: approximately 300,000
SYMBOL: Dragon
COAT OF ARMS: a castle and a dragon



Cene Šupar



LÜBYANA'YA HOŞ GELDİNİZ! MİRË SE VINI NË LJUBLJANE!



**Lübyana, Slovenya
Cumhuriyeti'nin
başkentidir.**

**Lubljana është
kryeqyteti i Republikës
së Sllovenisë.**

**BELEDİYE BAŞKANI:
ZORAN JANKOVIĆ**



3

**NÜFUS: Yaklaşık 300.000
SEMBOL: Ejderha
ARMASI: kale ve ejderha**

**KRYEBASHKIAKU:
ZORAN JANKOVIQ**

**POPULLSIA: Rreth 300.000
SIMBOLI: dragua
STEMA: kështjella dhe dragoi**



BIENVENUE A LJUBLJANA!

አንቃዕስ ፌዴራል
LJUBLJANA ብድሳን
መጽእታዎም!



**Ljubljana est la capitale
de la République de
Slovénie.**

ለበላይና ሁሉ ከተማ ሪፖርት
ሰላምናንያ እኩ::

MAIRE :
ZORAN JANKOVIĆ

ከተማ: ዘንብ ታሪክና



POPULATION : Environ 300 000
SYMBOLE : Dragon
ARMOIRIES : château et dragon

ሁሉ: አስተዳደር 300,000
ምልክት: ገዢ
አድራሻ: ከቅድመ ገዢ::



، به اسلوونی خوش آمدید
، به لیوبلیانا خوش آمدید
أهلاً بكم في سلوفينيا
أهلاً بكم في لیوبلیانا ،



لیوبلیانا پایتخت جمهوری اسلوونی است.

لیوبلیانا هي عاصمة جمهورية سلوفينيا.

شهردار: زوران یانکوویچ

العمدة: زوران یانکوویتش



جمعیت: حدود 300000 نفر
نماد: اژدها
نشان: قلعه و اژدها

عدد السكان: حوالي 300000 نسمة
الرمز: تنين
شعار النبالة: القلعة والتنين

POZDRAVI



Adijo!
Dober dan!
Dober večer!
Dobro jutro!
Lahko noč!
Nasvidenje!
Srečno!
Zdravo!
Živijo!

GREETINGS



Bye!
Hello!
Good evening!
Good morning!
Good night!
Goodbye!
Good luck!
Hi!
Hi!

SELAMLAR



Hoşçakal!
İyi günler!
İyi akşamlar!
Günaydın!
İyi geceler!
Güle güle!
İyi şanlar!
Şeref!
Merhaba!

PËRSHËNDETJE



Mirupafshim!
Ditën e mire!
Mirëmbrëma!
Mirëmëngjesi!
Natën e mire!
Mirupafshim!
Paç fat!
Përshëndetje!
Gëzuar!

با درود

SALUTATIONS



Au revoir !
Bonne journée !
Bonsoir !
Bonjour !
Bonne nuit !
Au revoir !
Bonne chance !
Bonjour !
Salut!



خدا حافظ!
روز خوب!
عصر بخیر!
صبح بخیر!
شب بخیر!
خداحافظ!
موفق باشید!
سلام!

ሰላም



ታወቃ!
ሰኔና መዓልቲ!
ከመደ አጥቢናኩም!
ከመደ ተደርሱኝ!
ለዋወጣ ለይታ!
ሰላም ካና!
ዕብቅ ዕድል!
ሰላም!
ሰላም

تحية طيبة



وداعا!
يوم جيد!
مساء الخير!
صباح الخير!
طاب مساؤك
مع السلامة!
حظا طيبا وففك الله
مرحبا!
مرحبا



ZNAMENITOSTI

Tromostovje
Ljubljanski grad
Glavna tržnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Pokopališče Žale

NARAVNE LEPOTE

Park Tivoli
Rožnik
Ljubljanica
Ljubljansko barje

LANDMARKS

Triple Bridge
Ljubljana Castle
Ljubljana's Central Market
National and University Library
Žale Cemetery

NATURAL BEAUTIES

Tivoli Park
Rožnik
River Ljubljanica
Ljubljana Moor



Cene Štupar



GÖRÜLECEK YERLER

**Üç Köprü
Ljubljana Kalesi
Ana pazar
Ulusal ve Üniversite
Kütüphanesi
Žale Mezarlığı**

DOĞAL GÜZELLİKLER

**Tivoli Parkı
Rožnik
Ljubljanica
Ljubljana bataklığı**

PAMJET

**Tromostovje
Kalaja e Lubljanës
Tregu kryesor
Biblioteka Kombëtare dhe
Universitare
Varrezat e Zhales**

BUKURITË NATYRORE

**Parku Tivoli
Rožnik
Ljubljanica
Moçal i Lubljanës**



Cene Štupar



CURIOSITÉS

Tromostovje

Château de Ljubljana

Le marché principal

Bibliothèque nationale et universitaire

Cimetière de Žale

BEAUTÉS NATURELLES

Parc Tivoli

Rožnik

Ljubljanica

Tourbière de Ljubljana

ተርጋታት

ተደምገቻቸው

ከስተላ ለበለያና::

አቶ ቅንዳ ዕዳር

የገዢውን የነበርሱትን ቤት መጽሐፍ

መካኑ መቻሰር አለ

ተፈጥሮች የባሽታት

ተሻለ ጽርክ

ዶምግብታት

ለበለያናኩ

ለበለያና ሆኖ



مناظر

تروموستویه
قلعه لیوبلیانا
بازار اصلی
کتابخانه ملی و دانشگاهی
قبرستان ژاله

زیبایی های طبیعی
پارک تیوولی
روسنیک
لیوبلیانیکا
باتلاق لیوبلیانا

مشاهد

الجسور الثلاثة
قلعة لیوبلیانا
السوق الرئيسي
المكتبة الوطنية والجامعية
مقبرة جالي

جمال طبیعی
حديقة تیفولی
روجنیک
لیوبلیانیتسا
لیوبلیانا باری

SPOZNAVANJE



Kako ti je ime?
Ime mi je Peter.
Kako se pišeš?
Pišem se Kos.
Od kod si?
Sem iz Slovenije, iz Ljubljane.
Kje stanuješ?
Stanujem na Celovški cesti 5.
Koliko si star?
Star sem 40 let.

TANIMAK



Adınız ne?
Benim adım Peter.
Soyadın ne?
Benim adım Kos.
Nerelisin Ben Slovenya'lıyım,
Ljubljana'lıyım.
Nerede yaşıyorsun Celovška cesta 5'te
yaşıyorum.
Kaç yaşındasın?
Ben 40 yaşındayım.

GETTING ACQUAINTED



What's your name?
My name is Peter.
What's your surname?
My surname is Kos.
Where are you from?
I am from Slovenia, from Ljubljana.
Where do you live?
I live at Celovška cesta 5.
How old are you?
I am 40 years old.

TË NJOHUR



Si e ke emrin?
Emri im është Peter.
Si është mbiemri juaj?
Mbiemri im është Kos.
Nga jeni?
Unë jam nga Sllovenia, nga
Lubljana.
Ku jeton?
Unë jetoj në Celovška cesta 5.
Sa vjeç jeni?
Unë jam 40 vjeç.

APPRENDRE À CONNAÎTRE



Quel est votre nom ?

Mon nom est Peter.

Comment vous épelez-vous ?

Je m'appelle Kos.

D'où viens-tu ?

**Je viens de Slovénie, de
Ljubljana.**

Où habites-tu ?

J'habite à Celovška cesta 5.

Quel âge as-tu ?

J'ai 40 ans.

آشنایی



اسمت چیه؟ نام من پیتر است.

نام خانوادگی شما چیست؟
نام خانوادگی من کوتث است.

شما اهل کجا هستید؟ من اهل اسلوونی هستم، از لیوبلیانا.

کجا زندگی می کنید؟ من در خیابان اسلوشکا ۵ زندگی می کنم.
شما چند سال دارید؟ من سال سن دارم.

ጥምራት



ገኘነ መን እና? የተደረሰ ይበኑል::
አየኝ መን እና/ አየዚ ቅስ እና::
ከበደ እና መሬኞች? አዎ ሲለጾችንያ::
ከብ ለብለያና እና::
አበደ እና ካኖብር? አዎ እና Celovška
cesta 5 እና ካኖብር::
ከንደደ ዓመት እና? ወደ 40 ዓመት
እና::

التعارف



ما اسمك؟ إسمي بيتر.
ما هي كنيتك؟ كنيتي هي كوس.
من أين أنت؟ أنا من سلوفينيا ،
من ليوبليانا.
أين تعيش؟ أعيش في
Celovška cesta 5.
كم عمرك؟ أبلغ من العمر 40
عاما.



Cene Štupar



PREVOZ

**Ljubljanski potniški
promet – LPP**

**Urban – električni vlakec
BicikeLJ**

Ljubljansko kolo

Ljubljanski Kavalir

TRANSPORTATION

**Ljubljana Public
Transport- LPP**
Urban (Electric Train)
**BicikeLJ - Public Bike
Sharing System**
**Kavalir (electric powered
vehicle)**



Cene Štupar



TOPLU TAŞIMA

**Ljubljana Yolcu
Taşımacılığı - LPP
Kentsel - elektrikli tren
BisikletLJ
Lübliyana şehir bisikleti
Ljubljana'lı Süvari**

TRANSPORTI

**Trafiku i pasagjerëve
Lubljanë - LPP
Tren urban - elektrik
BicikeLJ
Ljubljansko kolo (Rrota e
Lubljanës)
Ljubljanski Kavalir
(Kalorësi i Lubljanës)**



Cene Štupar



TRANSPORT

**Transport de passagers
de Ljubljana – LPP**

**Urban – train électrique
BicikeLJ**

**Ljubljansko kolo (Les
velos de Ljubljana)
Ljubljanski Kavalir
(Cavalier de Ljubljana)**


حمل و نقل

ليوبليانا

ترافيك مسافري -
قطار شهرى - برقى

دوچرخه

چرخ ليوبليانا
كاوالير ليوبليانا



መንግሥት

ፖ.ስ.ስ.ስ. ቴድሮች:: LPP
ከተማ - እሌክትሪክ ገብር
በገዢለታታለን
አበላያና ትምህራዊ
ካሳያር ፍቅር ላይ አበላያና::

وسائل النقل

ليوبليانا
حركة الركاب - LPP
حضري - قطار كهربائي
دراجات
دراجة ليوبليانا
وسيلة نقل صغير داخل ليوبليانا

ŠTEVILKE



0 nič
1 ena
2 dve
3 tri
4 štiri
5 pet
6 šest
7 sedem
8 osem
9 devet
10 deset

SAYILAR



0 sıfır
1 bir
2 iki
3 üç
4 dört
5 beş
6 altı
7 yedi
8 sekiz
9 dokuz
10 on

NUMBERS



0 zero
1 one
2 two
3 three
4 four
5 five
6 six
7 seven
8 eight
9 nine
10 ten

NUMRAT



0 asgjë
1 një
2 dy
3 tre
4 katër
5 pesë
6 gjashtë
7 shtatë
8 tetë
9 nëntë
10 dhjetë

NUMERO



0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix

፩፭፻፳፻



0 ቅዱ አንድ የለን
1 አድ
2 ካልተ
3 ስላሳት
4 ፊርማዎት
5 አምስኑት
6 ጽዴሽነት
7 ጽዴሞት
8 ጽምጾት
9 እስከት
10 የሰርተ

شماره



0 صفر
1 یک
2 دو
3 سه
4 چهار
5 پنج
6 شش
7 هفت
8 هشت
9 نه
10 ده

أعداد



0 صفر
1 واحد
2 اثنان
3 ثلاثة
4 اربعة
5 خمسة
6 ستة
7 سبعة
8 ثمانية
9 تسعة
10 عشرة



DOBRODOŠLI V SLOVENIJI! WELCOME TO SLOVENIA!



Slovenija je ena izmed manjših srednjeevropskih držav. Njena površina je 20.273 km².

Slovenia is one of the smallest Central European countries. Its area is 20,273 km².

Ima približno 2 milijona prebivalcev. Glavno mesto je Ljubljana, ki ima približno 300.000 prebivalcev. Večja mesta so: Maribor, Kranj, Novo mesto, Celje, Nova Gorica in Koper.



There are about 2 million people in Slovenia. The capital city is Ljubljana, it has approximately 300,000 inhabitants. Other larger cities are: Maribor, Kranj, Novo mesto, Celje, Nova Gorica and Koper.

Slovenija meji na zahodu z Italijo, na severu z Avstrijo, na severovzhodu z Madžarsko in na vzhodu in jugu s Hrvaško.

In the West Slovenia borders with Italy, in the North with Austria, in the Northeast with Hungary and in the East and South with Croatia.



Cene Štupar



SLOVENYA'YA HOŞ GELDİNİZ

MİRË SE VINI NË SLOVENI



Slovenya, küçük Orta Avrupa ülkelerinden biridir. Yüzölçümü 20.273 km²'dir.

Slovenia është një nga vendet më të vogla të Evropës Qendrore. Sipërfaqja e saj është 20.273 km².

**Yaklaşık 2 milyon nüfusu var.
Başkent, yaklaşık 300.000
nüfusu olan Ljubljana'dır.
Büyük şehirler: Maribor, Kranj,
Novo mesto, Celje, Nova Gorica
ve Koper.**

**Slovenya batıda İtalya, kuzeyde
Avusturya, kuzeydoğu
Macaristan ve doğu ve güneyde
Hırvatistan ile komşudur.**


Ka një popullsi prej rreth 2 milionë banorësh. Kryeqyteti është Lubjana, e cila ka rreth 300,000 banorë. Qytetet më të mëdha janë: Maribor, Kranj, Novo mesto, Celje, Nova Gorica dhe Koper.

**Slovenia kufizohet me Italinë
në perëndim, Austrinë në veri,
Hungarinë në verilindje dhe
Kroacinë në lindje dhe jug.**



BIENVENUE EN SLOVENIE

به اسلوونی خوش آمدید، به لیوبلیانا خوش آمدید!



La Slovénie est l'un des plus petits pays d'Europe centrale. Sa superficie est de 20 273 km².

اسلوونی یکی از کشورهای کوچک اروپای مرکزی است. مساحت آن 20273 کیلومتر مربع است

Elle compte environ 2 millions d'habitants. La capitale est Ljubljana, qui compte environ 300 000 habitants. Les plus grandes villes sont: Maribor, Kranj, Novo mesto, Celje, Nova Gorica et Koper.

À l'ouest, la Slovénie est bordée par l'Italie, au nord par l'Autriche, au nord-est par la Hongrie et à l'est et au sud par la Croatie.

حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد. پایتخت لیوبلیانا است که تقریباً 300000 نفر جمعیت دارد. شهرهای بزرگتر عبارتند اند از ماریبور. تسليه. نوفاگوریستا. کوپر.

اسلوونی از غرب با ایتالیا، از شمال با اتریش، از شمال شرقی با مجارستان و از شرق و جنوب با کرواسی همسایه است.

አንቂዕስ ፊዜ ስላጊናያ በደካን መዲኑም፡

አንቂዕስ ፊዜ **LJUBLJANA** በደካን

መዲኑም!

**أهلاً بكم في سلوفينيا ، أهلاً بكم في !
ليوبليانا**



ስላጊናያ ተንተኞች ተንተኞች
ማግኘት እውቅድ እያለ የፍርድ የ
ክልል ነው ይህንን የፍርድ የ
ክልል ነው ይህንን የፍርድ የ

سلوفينيا هي واحدة من أصغر دول
أوروبا الوسطى. تبلغ مساحتها
20,273 كيلومتر مربع.

አስተኛ 2 ማዕከሪያ ህዝብ አለዋል፡፡ የኢትዮ
አገልግሎት አንቀጽ አስተኛ አስተኛ
300 ቀበሌ አለው የሚከተሉት የ
የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ
የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ

يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون
نسمة. العاصمة ليوبليانا ، ويبلغ عدد
سكانها حوالي 300000 نسمة. المدن
الكبرى هي: ماريبور ، كران ، نوفو
ميستو ، تسييليه ، نوفا كوريتسا وكوبر.

ስላጊናያ ተንተኞች ተንተኞች
የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ
የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ
የፍርድ የፍርድ የፍርድ የፍርድ
የፍርድ የፍርድ የፍርድ

تحد سلوفينيا إيطاليا من الغرب
والنمسا من الشمال وال مجر من
الشمال الشرقي وكرواتيا من الشرق
والجنوب.

Številke od 11 do 30



11 enajst
12 dvanajst
13 trinajst
14 štirinajst
15 petnajst
16 šestnajst
17 sedemnajst
18 osemnajst
19 devetnajst
20 dvajset
21 enaindvajset
22 dvaindvajset
23 triindvajset
24 štiriindvajset
25 petindvajset
26 šestindvajset
27 sedemindvajset
28 osemindvajset
29 devetindvajset
30 trideset
40 štirideset
50 petdeset
60 šestdeset
70 sedemdeset
80 osemdeset
90 devetdeset
100 sto
500 petsto
1000 tisoč
5000 pet tisoč
100 000 sto tisoč
1 000 000 milijon

Numbers from 11 to 30



11 eleven
12 twelve
13 thirteen
14 fourteen
15 fifteen
16 sixteen
17 seventeen
18 eighteen
19 nineteen
20 twenty
21 twenty-one
22 twenty-two
23 twenty-three
24 twenty-four
25 twenty-five
26 twenty-six
27 twenty-seven
28 twenty-eight
29 twenty-nine
30 thirty
40 forty
50 fifty
60 sixty
70 seventy
80 eighty
90 ninety
100 hundred
500 five hundred
1000 thousand
5000 five thousand
100 000 one
hundred thousand
1 000 000 million

11'den 30'a kadar sayılar



**11 on bir
12 on iki
13 on üç
14 on dört
15 on beş
16 on altı
17 on yedi
18 on sekiz
19 on dokuz
20 yirmi
21 yirmi bir
22 yirmi iki
23 yirmi üç
24 yirmi dört
25 yirmi beş
26 yirmi altı
27 yirmi yedi
28 yirmi sekiz
29 yirmi dokuz
30 otuz
40 kırk
50 elli
60 altmış
70 yetmiş
80 seksen
90 doksan
100 yüz
500 beş yüz
1000 bin
5000 beş bin
100 000 yüz bin
1 000 000 milyon**

Numrat nga 11 deri në 30



**11 njëmbëdhjetë¹
12 dymbëdhjetë²
13 trembëdhjetë³
14 katërbëdhjetë⁴
15 pesëmbëdhjetë⁵
16 gjashtëmbëdhjetë⁶
17 shtatëmbëdhjetë⁷
18 tetëmbëdhjetë⁸
19 nëntëmbëdhjetë⁹
20 njëzet¹⁰
21 njëzet e një¹¹
22 njëzet e dy¹²
23 njëzet e tre¹³
24 njëzet e katër¹⁴
25 njëzet e pesë¹⁵
26 njëzet e gjashtë¹⁶
27 njëzet e shtatë¹⁷
28 njëzet e tetë¹⁸
29 njëzet e nëntë¹⁹
30 e tridhjetë²⁰
40 dyzet²¹
50 pesëdhjetë²²
60 gjashtëdhjetë²³
70 shtatëdhjetë²⁴
80 tetëdhjetë²⁵
90 nëntëdhjetë²⁶
100 njëgind²⁷
500 e pesëqind²⁸
1000 ni mijë²⁹
5000 pesë mijë³⁰
100 000 njëqind mijë³¹
1 000 000 milion³²**

Numéros de 11 à 30



11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt
21 vingt-et-un
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29 vingt-neuf
30 trente
40 quarante
50 cinquante
60 soixante
70 soixante-dix
80 quatre-vingt
90 quatre-vingt-dix
100 cent
500 cinq cents
1000 mille
5000 cinq mille
100 000 cent mille
1 000 000 millions

اعداد از 11 تا 30



11 یازده
12 دوازده
13 سیزده
14 چهارده
15 پانزده
16 شانزده
17 هفده
18 هجده
19 نوزده
20 بیست
21 بیست و یک
22 بیست و دو
23 بیست و سه
24 بیست و چهار
25 بیست و پنج
26 بیست و شش
27 بیست و هفت
28 بیست و هشت
29 بیست و نه
30 سی
40 چهل
50 پنجاه
60 شصت
70 هفتاد
80 هشتاد
90 نود
100 صد
500 پانصد
1000 هزار
5000 پنج هزار
100 000 صد هزار
1 000 000 میلیون



11 ዓዲር ፊደል
 12 ዓዲር አልተ
 13 ዓዲር ስለስተ
 14 ዓዲር አርባዎት
 15 ዓዲር አመስት
 16 ዓዲር ጽዜስት
 17 ዓዲር ጽጋፍት
 18 ዓዲር ጽምንት
 19 ዓዲር ቴሽኑት
 20 ዕስራ
 21 ዕስራን አድራ::
 22 ዕስራን ክልተ::
 23 ዕስራን ስለስተን
 24 ዕስራን አርባዎተን
 25 ዕስራን አመስተን
 26 ዕስራን ጽዜስተን
 27 ዕስራን ጽወፍተን
 28 ዕስራን ጽምንተን
 29 ዕስራን ቴሽኑተን
 30 ስላሳ
 40 አርብዎ
 50 አምሳ
 60 ስድሳ
 70 ስብዎ
 80 ስማንያ
 90 ተከና
 100 ሚኒክ
 500 አመስት ሚኒክ
 1000 ጽሑፍ እቶ::
 5000 አመስት ጽሑፍ
 100 000 ሚኒክ ጽሑፍ
 1 000 000 ሚኒክ ቁጥር አዋጅ
 ምኞች የሚ ይኖላል



11 أحد عشر
 اثنا عشر 12
 ثلاثة عشر 13
 أربعة عشر 14
 خمسة عشر 15
 ستة عشر 16
 سبعة عشر 17
 ثمانية عشر 18
 تسعة عشر 19
 عشرين 20
 واحد وعشرون 21
 اثنان وعشرون 22
 ثلاثة وعشرون 23
 أربعة وعشرون 24
 خمسة وعشرون 25
 ستة وعشرون 26
 سبعة وعشرون 27
 ثمانية وعشرون 28
 تسعة وعشرون 29
 ثلاثين 30
 أربعين 40
 خمسون 50
 ستين 60
 سبعون 70
 ثمانون 80
 تسعين 90
 مائة 100
 خمسمائة 500
 ألف 1000
 خمسة آلاف 5000
 مائة ألف 100000
 مليون 1000000



Do leta 1991 je bila ena od republik velike države Jugoslavije. Samostojna država je postala 25. junija leta 1991. Od leta 2004 je Slovenija članica Evropske unije in zveze Nato. Denarna enota je evro.

Until 1991 Slovenia was a part of the great country called Yugoslavia. It has been an independent country since June 25, 1991. Since 2004 Slovenia has been a member of the European Union and NATO. The Euro is the official currency.

V Sloveniji živijo Slovenci in Slovenke. Govorijo slovenščino/slovenski jezik. Slovenska himna se imenuje Zdravljica. Napisal jo je France Prešeren, največji slovenski pesnik.

The inhabitants are called Slovenes or Slovenians. They speak Slovenian/Slovene.

The Slovenian national anthem is called Zdravljica. It was written by France Prešeren, the greatest Slovenian poet.



1991 yılına kadar, büyük Yugoslavya ülkesinin cumhuriyetlerinden biriydi. 25 Haziran 1991'de bağımsız bir ülke oldu. 2004'ten beri Slovenya Avrupa Birliği ve NATO üyesidir. Para birimi euro'dur.

Deri në vitin 1991 ishte një nga republikat e vendit të madh të Jugosllavisë. Ajo u bë një vend i pavarur më 25 qershor 1991. Që nga viti 2004, Sılovenia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Monedha është euro.

Sloven erkekler ve kadınlar Slovenya'da yaşıyor. Slovence/Slovence konuşurlar.

Sloven milli marşına Zdravljica denir. Slovenya'nın en büyük şairi France Prešeren tarafından yazılmıştır.

Burrat dhe gratë sılovene jetojnë në Sıloveni. Ata flasin gjuhën sılovene.

Himni kombëtar sıloven quhet Zdravljica. Është shkruar nga France Prešeren, poeti mi madh sıloven.



Cene Štupar



Jusqu'en 1991, c'était l'une des républiques du grand pays de Yougoslavie. Elle est devenue un pays indépendant le 25 juin 1991. Depuis 2004, la Slovénie est membre de l'Union européenne et de l'OTAN. La monnaie est l'euro.

تا سال 1991 یکی از جمهوری های کشور بزرگ یوگسلاوی بود. این کشور در 25 ژوئن 1991 به یک کشور مستقل تبدیل شد. از سال 2004، اسلوونی یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو است. واحد پول یورو است.

Des hommes et des femmes slovènes vivent en Slovénie. Ils parlent la langue slovène/slovène.

L'hymne national slovène s'appelle Zdravljica. Il a été écrit par France Prešeren, le plus grand poète slovène.



30

مردان و زنان اسلوونیایی در اسلوونی زندگی می کنند. آنها به زبان اسلوونیایی/اسلوونیایی صحبت می کنند.

سرود ملی اسلوونی از در او لیتسا نام دارد. این اثر توسط فرانس پرشن، بزرگترین شاعر اسلوونیایی نوشته شده است.



አካን 1991 ቀን ቤት ስም ንግድ
የገኘ የተዘረዘሩ ተስፋ ብርሃን ብርሃን
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

حتى عام 1991 ، كانت واحدة من جمهوريات دولة يوغوسلافيا العظيمة. أصبحت دولة مستقلة في 25 يونيو 1991. منذ عام 2004 ، أصبحت سلوفينيا عضواً في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. العملة هي اليورو.

አዲስ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

يعيش الرجال والنساء السلوفينيون في سلوفينيا. يتحدثون اللغة السلوفينية / السلوفينية.

የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ
የገኘ የገኘ የገኘ የገኘ

النشيد الوطني السلوفيني يسمى زدراوليستا. كتبه فرانتس بريشيرن ، أعظم شاعر سلوفيني.

DNEVI V TEDNU



ponedeljek

torek

sreda

četrtek

petek

sobota

nedelja

Kateri dan je danes?

Danes je torek.

DAYS OF THE WEEK



Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday

What day is it today?

It's Tuesday.

HAFTANIN GÜNLERİ



Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

Cumartesi

Pazar

Bugün günlerden ne?

Bugün salı.

DITET E JAVES



e hënë

e martë

e mërkurë

e enje

e premte


e shtunë

e dielë

Çfarë dite është sot?

Sot është e marte.

JOURS DE LA SEMAINE



Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

**Quel jour sommes-nous
aujourd'hui ?**

Aujourd'hui, c'est mardi.

روزهای هفته



دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

امروز چه روزی است؟

امروز سه شنبه.

መዓልታት አስተዳደር



ሰኔ

ሰላሳ

ገበድ

አሙስ

ቅርቡ

ቀዢም

ሰንበት

ለምሳት እየነውታ መዓልታት እያ?

ለምሳት ሰላሳ እያ::

أيام الأسبوع



الاثنين

الثلاثاء

الأربعاء

الخميس

الجمعة

السبت

الأحد

في اي يوم نحن؟

اليوم هو الثلاثاء.



Slovenska zastava ima tri barve, in sicer belo, modro in rdečo. Zastava ima grb, ki simbolizira Triglav, najvišjo slovensko goro, in morje.

The Slovenian flag has three colors: white, blue and red. The flag has a coat of arms that symbolizes the highest mountain in Slovenia Triglav and the sea.

Slovenija ima veliko gozdov. Najdaljša slovenska reka je Sava. Slovenija ima tudi več kot 10.000 kraških jam, najbolj znana je Postojnska jama. Tam najdemo tudi človeško ribico.



Slovenia has many forests. The longest Slovenian river is Sava. In Slovenia there are also more than 10,000 Karst caves, the most famous is the Postojna Cave. There is also a human fish - baby dragon.



Sloven bayrağının üç rengi vardır: beyaz, mavi ve kırmızı. Bayrak, Slovenya'nın en yüksek dağı olan Triglav'ı ve denizi simgeleyen bir armaya sahiptir.

Flamuri slloven ka tre ngjyra: të bardhe, kaltert dhe të kuq. Flamuri ka një stemë që simbolizon Triglav, malin më të lartë në Slloveni dhe detin.

Slovenya'nın birçok ormanı vardır. Slovenya'nın en uzun nehri Sava'dır. Slovenya ayrıca en ünlü Postojna Mağarası olan 10.000'den fazla karstik mağaraya sahiptir. Ayrıca orada bir insan balığı da görebilrsiniz.

Sllovenia ka shumë pyje. Lumi më i gjatë slloven eşti Sava. Sllovenia gjithashtu ka më shumë se 10,000 shpella karstike, më e famshmja eşti shpella Postojna. Ekziston edhe një "peshku njerëzorë".



Le drapeau slovène a trois couleurs: blanc, bleu et rouge. Le drapeau a un blason qui symbolise le Triglav, la plus haute montagne de Slovénie, et la mer.

رچم اسلوونی دارای سه رنگ سفید، آبی و قرمز است. این پرچم دارای نشانی است که نماد تریگلاو، بلندترین کوه اسلوونی و دریا است

La Slovénie possède de nombreuses forêts. Le plus long fleuve slovène est la Sava. La Slovénie compte également plus de 10 000 grottes karstiques, la plus célèbre étant la grotte de Postojna. Il y a aussi un poisson humain.

اسلوونی جنگل های زیادی دارد. طولانی ترین رودخانه اسلوونی ساوا است. اسلوونی همچنین بیش از 10000 غار کارستی دارد که معروف ترین آنها غارپوستای نا است. یک انسان ماهی هم هست.



በንዃራ ስላጊያ ስላሳት ቁጥር እለዋ፡
የዚህ ስላጊያ ቅድመ ተኋሉ፡ እና ብቻ
ተረጋላሽ፡ እኩ ስላጊያ አለባለ
አምባን ገዢዎች ዘመልከት አርማ እለዋ፡፡

العلم السلوفيوني له ثلاثة ألوان:
الأبيض والأزرق والأحمر. يحتوي
العلم على شعار النبالة الذي يرمز
إلى تريكلاو ، أعلى جبل في سلوفينيا
، والبحر.

ስላጊያ ቀበቅ አገራብ እለዋ፡፡ እኩ
ዘዴው ፍት ስላጊያ ስት እኩ፡ ስላጊያ
ልዕላ 10 ቤት በኖሩ ካርስት እውን እለዋ፡
እኩ አያዲ ፍለጥ በኖሩ ገስቶች እኩ፡ የስ
ስላጊያ እውን እለዋ፡፡

يوجد في سلوفينيا العديد من
الغابات. أطول نهر سلوفيوني هو نهر
سافا. يوجد في سلوفينيا أيضًا أكثر
من 10000 كهوف صغيرة ، أشهرها
كهف بوستوينا. هناك أيضًا سمة
يسمني (السمكة البشرية)

MESECI V LETU



januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

YILIN AYLARI



Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık

MONTHS OF THE YEAR




January
February
March
April
May

MUAJ TË VITIT



janar
shkurt
mars
prill
maj
qershor
korrik
gusht
shtator
tetor
nëntor
dhjetor

MOIS DE L'ANNÉE



Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

አዋርቂ ፍዴድ ዓመት



ጥር
 ለካተት
 መርበት
 ጉንቦት
 ጉንቦት
 ለነ
 አምስ
 ንክሰ
 መስከረም
 ጥቅምት
 ከዳር
 ታክሳስ

ماه های سال



ژانویه
 فوریه
 مارس
 آوریل
 مای
 ژوئن
 جولای
 مرداد
 سپتامبر
 اکتبر
 نوامبر
 دسامبر

شهور العام



كانون الثاني
 شباط
 اذار
 نيسان
 ايار
 حزيران
 تموز
 اب
 ايلول
 تشرين الاول
 تشرين الثاني
 ديسمبر



Najpopularnejša turistična točka je Bled.

The most popular tourist destination is Bled.



Slovenija ima malo morja, obala je dolga približno 46 kilometrov. Obalna mesta so majhna, a zelo prijetna.

Slovenia has a short stretch of coastline; the coast is about 46 kilometers long. Coastal towns are small but very pleasant.

V Sloveniji imamo 4 letne čase: pomlad, poletje, jesen in zimo. Spomladi je toplo, velikokrat dežuje in piha veter. Poleti je vroče, včasih so nevihte. Temperature so okrog 30 stopinj Celzija in več. Jeseni je včasih toplo, včasih mrzlo ter pogosto piha veter. Temperature so med 10 in 15 stopinj Celzija. Pozimi je hladno, včasih sneži. Temperature so okrog 0 stopinj Celzija in manj.

In Slovenia there are 4 seasons: spring, summer, autumn and winter. In spring it is warm, often rainy and windy, Summers are hot and sometimes there are storms. Temperatures are around 30 degrees Celsius and above. Autumn is sometimes warm, sometimes cold and windy as well. Temperatures are between 10 and 15 degrees. Winters are cold and sometimes it snows.

Temperatures are around and below 0.



En popüler turistik yer Bled'dir.

Destinacioni më i njohur turistik është Bled.



Slovenya'nın denizi az, sahili yaklaşık 46 kilometre uzunluğunda. Sahil kasabaları küçük ama çok hoş.

Slovenya'da 4 mevsim vardır: ilkbahar, yaz, sonbahar ve kış. İlkbaharda hava ılıktır, sık sık yağmur yağar ve rüzgar eser. Yazın hava sıcaktır, bazen de fırtınalar olur.. Sıcaklıklar yaklaşık 30 derece ve üzerindedir. Sonbahar bazen sıcak, bazen soğuktur. Aynı zamanda da rüzgarlıdır. Sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasındadır. Kışın soğuktur, bazen kar yağar. Sıcaklıklar 0 derece civarında ve hatta daha da düşük.

Slovenia ka pak det, bregdeti është rrëth 46 kilometra i gjatë. Qytetet bregdetare janë të vogla por shumë të këndshme.

Në Sloveni kemi 4 stinë: pranverë, verë, vjeshtë dhe dimër. Në pranverë është e ngrohtë, shpesh bie shi dhe fryn erë. Është vapë në verë, ndonjëherë ka stuhi. Temperaturat janë rrëth 30 gradë Celsius e lart. Vjeshta ndonjëherë është e ngrohtë, ndonjëherë e ftohtë. Edhe era po fryn. Temperaturat janë nga 10 deri në 15 gradë. Është ftohtë në dimër, ndonjëherë bie borë. Temperaturat janë rrëth 0 gradë dhe edhe më të ulëta.



La destination touristique la plus populaire est Bled.

محبوب ترین مقصد گردشگری بلد است.



La Slovénie a peu de mer, la côte fait environ 46 kilomètres de long.

Les villes côtières sont petites mais très agréables.

En Slovénie, nous avons 4 saisons : printemps, été, automne et hiver. Au printemps, il fait chaud, il pleut souvent et le vent souffle. Il fait chaud en été, parfois il y a des orages. Les températures sont d'environ 30 degrés Celsius et plus.

L'automne est parfois chaud, parfois froid. Le vent souffle aussi.

Les températures oscillent entre 10 et 15 degrés. Il fait froid en hiver, parfois il neige. Les températures sont autour de 0 degrés et même plus bas.

اسلوونی دریای کمی دارد، طول ساحل حدود 46 کیلومتر است. شهرهای ساحلی کوچک اما بسیار دلپذیر هستند.

در اسلوونی ما 4 فصل داریم: بهار، تابستان، پاییز و زمستان. در بهار هوا گرم است، اغلب باران می بارد و باد می وزد. در تابستان هوا گرم است، گاهی طوفان می آید. دما در حدود 30 درجه سانتیگراد و بالاتر است. پاییز گاهی گرم است گاهی سرد. باد هم می وزد. دما بین 10 تا 15 درجه است. در زمستان سرد است، گاهی برف می بارد. دما در حدود 0 درجه و حتی کمتر است



አዲ አበበ ተፈታዊ አቶና ፍቃ በደስት ብቻ
በላይ እያ::

أشهر مقصد سياحي هو بليد.



ስሎቁኒያ ወካድ ብቅራ አለዋ፡ ገማገጥ ብቅራ
አሰተት 46 ከላመተር ነውካት አለዋ፡ እነ
አጠቃላይ ብቅራ አርከን ክተማገም ብቅራ
ተደረገ እና አዘጋጅ እና አየነ::

سلوفينيا لديها القليل من البحر ، ويبلغ طول الساحل حوالي 46 كيلومترًا. المدن الساحلية صغيرة ولكنها ممتعة للغاية.

አዲ ስሎቁኒያ 4 ወቂኑት አለዎች፡ 8ኛ፡
አርድ፡ ቅዱስን ክረፍምኑን እያም፡ እና 8ኛ
ወጪ እና፡ መብዛዕባኑን ግዢ አፍጊ ይዘጋጀነ
ገፍ ይኖሩ፡ እና አርድ ወጪ እና፡
አድ አድ ግዢ ሆኖስተት እለም፡ መቀኑ ክበደ
30 ፅግኘ ሲንተገራድን ለወለናን ይሻውን፡
ቀዱ አገልግሎት ወጪ፡ አገልግሎት አስፈላ እና፡
ገፍ አውን ይኖሩ፡ እለም፡ መቀኑ ክብር 10
አገልግሎት 15 ፅግኘ ይሻውን፡ እና ክረፍምኑን አስፈላ
እና፡ አድ አድ ግዢ በረድ ይዘጋጀነ፡ መቀኑ
ክበደ 0 ፅግኘን ክብር እና እና፡

في سلوفينيا لدينا 4 مواسم: الربيع والصيف والخريف والشتاء. يكون الجو دافئاً في الربيع ، وغالباً ما تمطر وتهب الرياح. يكون الجو حاراً في الصيف ، وأحياناً تكون هناك عواصف. درجات الحرارة حوالي 30 درجة مئوية وما فوق. الخريف دافئ في بعض الأحيان ، وأحياناً بارد. الرياح تهب أيضاً. تتراوح درجات الحرارة بين 10 و 15 درجة. يكون الجو بارداً في الشتاء ، وأحياناً يتتساقط ثلوج. درجات الحرارة حوالي 0 درجة وحتى أقل من ذلك.

LETNI ČASI



pomlad
poletje
jesen
zima

MEVŞİM



bahar
yaz
sonbahar
kış

SEASONS



spring
summer
autumn
winter

SEZONI



pranverë
verës
vjeshte
dimrit

SAISON



le printemps
été
l'automne
l'hiver

ወቻት



ሰኔና
ከተማት
ቀዢኑ
ካርድ

فصل



بهار
تابستان
فصل پاییز
زمستان

الموسم



الربيع
الصيف
خريف
الشتاء



DOBRODOŠLI V LJUBLJANI! WELCOME TO LJUBLJANA!



Brošura je nastala v okviru Interkulturnega centra, ki deluje v okviru Mestnega programa izobraževanja odraslih, kot odgovor na potrebe, ki jih zaznavamo v družbi. Ustvarili so jo učenci in mentorji, ki delujejo v okviru Osnovne šole za odrasle na Javnem zavodu Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana.

Brošura je pripravljena v slovenskem, angleškem, turškem, albanskem, tigrajskem, perzijskem in arabskem jeziku.

KOLOFON

Pripravili:

Y. Ayhan, A. Delilaj, S. Akrimi, D. Chigozie, E. Gulzari, I. Gulzari,



H. M. Hassan, A. Jalloul, K. Jlassi, B. Keyta



O. Kaki, M. Kaki, I. K. Koma, Z. Koca,



N. Ramadhani, F. Sedequat, F. Shabanai



Y. Sulyman Agha, M. Tabi, R. Yemane.



Mentorji: M. Krivka, H. Mustafa,



Y. Ayhan, S. Grmovšek, A. Vrbančič



Lektura:

S. Grmovšek, A. Ivanič, H. Mustafa



Urednici:

K. P. Nussdorfer in A. Ivanič



Oblikovanje:

K. P. Nussdorfer



Fotografije:

I. Gulzari, E. Gulzari, K. P. Nussdorfer



Grafike:

www.canva.com



Cene Štupar



**Interkulturni center
Mestni program izobraževanja odraslih
2022**